

روزمرہ استعمال کے اہم فقرات

I am having dinner.	میں رات کا کھانا کھا رہا ہوں۔
I'm sorry to say but I can't meet on this Sunday.	میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں اس اتوار کو نہیں مل سکتا۔
Stop making such a noise.	شور مچانا بند کرو۔
I am going to the office.	میں دفتر جا رہا ہوں۔
What is going on?	کیا ہو رہا ہے؟
What do you think you'd like to drink?	آپ کے خیال میں آپ کیا پینا پسند کریں گے؟
Shall we go to the cinema today?	کیا آج ہم سنیما جائیں؟
Where does this road lead to?	یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے؟
What exactly are you looking for?	آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟
What is the current temperature?	موجودہ درجہ حرارت کیا ہے؟

روزمرہ استعمال کے اہم فقرات

How can I help you?	میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟
Would you please speak slowly?	کیا آپ آہستہ بولیں گے؟
He has been to the market.	وہ بازار گیا ہے۔
How much time it will take?	کتنا وقت لگے گا؟
My study is going on well.	میری پڑھائی اچھی چل رہی ہے۔
You are a cheater.	تم دھوکے باز ہو۔
Could you give me some money?	کیا آپ مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہیں؟
I owe you a great deal.	میں آپ کا بہت مقروض ہوں۔
Why are you staring?	کیوں گھور رہے ہو؟
A set of books is on the table.	کتابوں کا سیٹ میز پر پڑا ہے۔

روزمرہ استعمال کے اہم فقرات

I am having my haircut.	میں اپنے بال کٹوا رہا ہوں۔
Could you bring me a glass of water?	کیا آپ مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے سکتے ہیں؟
You should see a doctor.	آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔
I feel much better.	میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔
He must be tired.	وہ تھکا ہوا ہو گا۔
I don't need your advice.	مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔
Don't be so childish	اتنا بچکانہ مت بنو
What's on the menu tonight?	آج رات مینو میں کیا ہے؟
Anytime you need to talk, just call me	جب بھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہو، بس مجھے کال کریں۔
I will get up early in the morning.	میں صبح سویرے اٹھوں گا۔